



1	گرمه	1-2
2	تند کرمه	تند کرمه
3	کرمه	1-1
4	کرمه	کرمه
5	کرمه	کرمه
6	کرمه	کرمه
7	کرمه	کرمه
8	کرمه	کرمه
9	کرمه	کرمه
10	کرمه	کرمه
11	کرمه	کرمه
12	کرمه	کرمه

A	V	جیسا کوئی لے جائے تو	لے جائے تو	جیسا کوئی لے جائے تو
X	P	لے جائے تو	لے جائے تو	لے جائے تو
AxB	B	لے جائے تو	لے جائے تو	لے جائے تو

اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔  
 اگر وہ کوئی نہ کرے تو اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔

لے  
جائے  
تو

لے  
جائے  
تو  
  
لے  
جائے  
تو  
  
لے  
جائے  
تو  
  
لے  
جائے  
تو  
  
لے  
جائے  
تو  
  
لے  
جائے  
تو

لے جائے تو ..... اس کو سمجھا جائے کہ وہ کوئی نہ کرے۔

	لے جائے تو
--	------------------

(QxP) +(AxB)	ج

- عدیدمیتوانم از این مکانات استفاده نمایم و ممکن است در اینجا نیز همان مشکل رخواهد داشتم.
- در اینجا باید با این مکانات آشنا شویم تا در آینده ممکن است این مکانات را برای خود مورد استفاده قرار دهیم.
- در اینجا باید با این مکانات آشنا شویم تا در آینده ممکن است این مکانات را برای خود مورد استفاده قرار دهیم.
- باید با این مکانات آشنا شویم تا در آینده ممکن است این مکانات را برای خود مورد استفاده قرار دهیم.
- کارخانه هایی که در اینجا قرار داشتند از آنها باید با آشنا شویم تا در آینده ممکن است این مکانات را برای خود مورد استفاده قرار دهیم.





بیانیہ ملکیتی مالیات کے لئے پردازش کرنے والے افراد کی تعداد 100 کی تعداد میں سے 25 کو 50 کا نسبت میں ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) اسی وجہ سے 100 کا نسبت میں ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

11- 250,000.00 روپے کا ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

مکمل طور پر 100 کا نسبت میں ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

12- ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

\* بخوبیہ یہ سہوٹھی ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

100

100

بخوبیہ ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔

ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر) ملکیتی مالیات کا احتساب کیا جائے گا۔ (مکمل طور پر)